

A۔ آپ کی فنانسنگ کی ضرورت	
پروڈکٹ کا نام	HBL کارلون
درکار گزار کی	نئی ☐ استعمال شدہ ☐
درکار رقم تک	_____ روپے
فنانسنگ کی مدت	_____ ماہ
مارک اپ کی قسم	فلکسڈ
B۔ فنانسنگ کی رقم کا تخمینہ	
مارک اپ ریٹ (سالانہ)	x.x%
*ریگولر چارجز: 12,000 روپے + FED (بشمول) *دوبارہ کارلون لینے والے کسٹمرز: 6,000 روپے + FED (بشمول)۔ ۰06 ماہ بعد دوبارہ اپلائی کرنے والے انفرادی یا ایک فیصلہ کی میچورٹی کے بعد یا سہولت کے کم از کم ۰06 ماہ بعد) بشمول: - دستاویزات کے چارجز - تصدیق - اسٹامپ ڈیوٹی - کریڈٹ راپورٹ: اصل 150 روپے تک - گاڑی کا جائزہ لینے کے چارجز: جو بھی اصل چارجز ہوں گے وہ کسٹمر ادا کرے گا * تازہ ترین SOBC کے مطابق - یہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں، براہ مہربانی تازہ ترین SOBC کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں۔	
ماہانہ قابل ادائیگی قسط بقتی ہوگی؟ (صرف پیل سال کے لیے برابر ماہانہ قسط (EMI)) نوٹل ماہانہ قابل ادائیگی قسط بقتی ہوگی؟ (صرف پیل سال کے لیے نوٹل ماہانہ ادائیگی (TMP))	روپے = _____ فنانسنگ امانٹ + پروڈکٹ (APR x فنانسنگ کی مدت) مدت ("مہینوں میں") روپے * EMI + ماہانہ انشورنس (انشورنس کے ساتھ ماہانہ کرانے کا مجموعہ) روپے _____ X (فنانسنگ کی مدت) مہینے = _____ روپے
C۔ قبل از وقت ادائیگی اور جزوی ادائیگی	
کیا آپ لون / فنانس کی رقم میچوری سے قبل ادا کر سکتے ہیں؟	ہاں
آپ لون / فنانس کی رقم میچوری سے قبل کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟	کسٹمر برانچ پر تشریف لائے گا اور کارلون کو قبل از وقت ختم کرنے کی درخواست دے گا۔
کیا آپ کارلون / فنانس کی قبل از وقت سبسکوشن پر کوئی اضافی رقم ادا کرنی ہوگی؟	1۔ گاڑی کی ڈیلیوری سے قبل سبسکوشن کی صورت میں واجب الادا رقم کا 10 فیصد + FED 2۔ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد سبسکوشن کی صورت میں واجب الادا رقم کا 5 فیصد + FED
کیا آپ بچھگی ادائیگی / لون کی جزوی ادائیگی / فنانس کے لیے کوئی اضافی رقم یا چارجز کی ادائیگی کرنا ہوگی؟	1۔ گاڑی کی ڈیلیوری سے قبل جزوی ادائیگی کی صورت میں طے کردہ رقم کا 10 فیصد + FED 2۔ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد جزوی ادائیگی کی صورت میں طے کردہ رقم کا 5 فیصد + FED
D۔ عدم ادائیگی / ادائیگی میں تاخیر سے متعلق معلومات:	
اگر آپ اپنی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟	ایک گاڑی کو واپس قبضے میں لے سکتا ہے اور یا کسٹمر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان (SBP)، دو سال تک کی مثالی واجب الادا ادائیگی کی معلومات (جس میں بشمول مرحومہ وندیش، زائد المیعا دادائیگیاں، میرے ادائیگی، رائن آف بائراک۔ آپ کی معافی وغیرہ شامل ہیں)۔ CIB-e میں شامل کرے گا۔ لہذا، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی قسطوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں تاکہ آپ CIB-e پر کسی بھی قسم کی منفی معلومات کی اطلاع یا عکاسی ہونے سے بچ سکیں۔
آپ قبضے میں لی گئی گاڑی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟	اگر کسٹمر قبضہ قائم ادا کرتا ہے! اسے گاڑی واپس کر دی جائے گی، تاہم اگر کسٹمر رقم ادا کرنے سے قاصر ہے، تو بینک پر دس کے تصفیے کا انتخاب کرے گا۔
عدم ادائیگی کے چارجز	شرح کا اطلاق
تاخیر سے ادائیگی کے چارجز کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ	تاخیر سے ادائیگی کے چارجز (LPC) /-1,500 روپے + FED (ماہانہ)
وقت پراوانی نہیں نہ کرنے پر آپ پر کیا جرمانہ عائد کیا جائے گا؟	فلکسڈ چارجز
گاڑی کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارجز - /50,000 روپے یا اصل (جو بھی کم ہو)	
E۔ دیگر مادی معلومات	
انسورنس کروانا لازمی ہے، بینک کے پیشکش شدہ انشورنس میں شامل ہیں آدم جی، IGI، EFU، TPL (یا کوئی دوسرا جسے وقتاً فوقتاً HBL کی جانب سے منظور کیا گیا ہو)، اور جامع انشورنس کا احاطہ کیا گیا ہے (تفصیلی انشورنس سرٹیفیکٹ پر درج ہے)۔	آپ کے پاس انشورنس کے لون کن سے آئشن موجود ہیں؟
متوفی کے فراصل کی ادائیگی کو قانونی ورثہ کی جانب سے تسلیم کیا جائے گا اور ایئر کے پختہ ہونے تک اسے جاری رکھا جائے گا۔	نا بدہندہ (نا بدہندگان) کے انتقال کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟
N/A	ضامن کے فراصل کیا ہیں؟
HBL CarLoan کی درخواست، خط برائے تنظیم، شیڈول آف چارجز (SOBC)، کارلون، فیصلہ لیٹر، ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی، بلیک اور ڈیلیوری میں تاخیر سے متعلق تنظیم، نمائندہ فارمز کے لیے ٹیکس کا حساب کتاب، پروڈکٹ کی معلومات / خصوصیات اور کسٹمر کا اقرارنامہ۔	آپ کو لون کی دستاویزات فراہم کی جائیں گی؟
جی ہاں، آپ HBL سے NOC حاصل کرنے کے بعد کسی تیسرے فریق کو اپنی گاڑی فروخت کر سکتے ہیں جو صرف بتا یا رقم کی ادائیگی اور بینک کے تمام واجب الادا واجبات کی ادائیگی کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔	کیا آپ اپنی گاڑی لون / فنانس کی مدت کے دوران کسی تیسرے فریق کو فروخت کر سکتے ہیں؟
کسٹمرز HBL کا بینک سہنے 111-111-425 پر کال کر سکتے ہیں یا مقامی HBL برانچ تشریف لا سکتے ہیں۔	آپ معاونت و مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟